


سلسلہ اصلاحی خطبات

۲

ماہِ حجہ

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

جس سے مولانا محمد تقی عثمانی نے طلبہ العالمی



مین اسلام ک پبلیشورز

شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ	میمن	مولانا عبداللہ میمن	و ترتیب
	۲۳	جنوری ۱۹۹۲ء بروز جمعہ، بعد نماز عصر	ارجع وقت
		جامع مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال، کراچی	قام
		جنوری ۱۹۹۳ء	شاعت اول
		ایک ہزار	عداد
		میمن اسلامک پبلیشرز۔ ۱۸۸/۱، لیاقت آباد، کراچی ۱۹۰۰ء	ماہر
		ولی اللہ میمن	امتام
		دش رہ پے	نیت

لئے کے پتے

..... میمن اسلامک پبلیشرز۔ ۱۸۸/۱، لیاقت آباد، کراچی ۱۹۰۰ء

..... ادارہ اسلامیات۔ ۱۹۰۰ء۔ انارکلی، لاہور

..... دارالاشاعت۔ اردو بازار، کراچی

..... ادارۃ المعارف۔ دارالعلوم، کراچی۔ ۳۳

..... مکتبہ دارالعلوم کراچی۔ ۱۳۰

..... بیت القرآن۔ اردو بازار، کراچی

فہرست مضمون

- ۱۔ حب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ ۵
- ۲۔ شبِ مراجٰع کی فضیلت ثابت نہیں۔ ۶
- ۳۔ شبِ مراجٰع کی تعین میں اختلاف۔ ۷
- ۴۔ واقعہ مراجٰع کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟ ۷
- ۵۔ وہ رات عظیم الشان تھی۔ ۷
- ۶۔ آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شبِ مراجٰع کی تاریخ آئی، لیکن؟ ۸
- ۷۔ اس کے برابر کوئی احمد نہیں۔ ۹
- ۸۔ بنیے سے سیانہ سو باوڑا۔ ۹
- ۹۔ صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جاننے والا کون؟ ۱۰
- ۱۰۔ اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے۔ ۱۰
- ۱۱۔ رجب کا روزہ ثابت نہیں۔ ۱۱
- ۱۲۔ حضرت فاروق اعظم اور بدعت کا سد باب۔ ۱۲
- ۱۳۔ اس رات میں جاگ کر کونسی برائی کر لی؟ ۱۳
- ۱۴۔ وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے۔ ۱۴
- ۱۵۔ کونڈوں کی حقیقت۔ ۱۴
- ۱۶۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ۱۴
- ۱۷۔ خلاصہ۔ ۱۴

Www.Ahlehaq.Com

واقعہ مراجع کے بعد ۱۸ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرمائے ہے۔ لیکن ان ۱۸ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراجع کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگناز یادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔

Www.Ahlehaq.COM/forum

ماہِ ربِّ جب

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى - أما بعد -

ماہِ ربِّ جب کے بارے میں لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ ان کی حقیقت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔
 ربِّ جب کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل
 اس پورے مہینے کے بارے میں جو بات صحیح سند کے ساتھ حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ربِّ جب کا چاند
 دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ:

اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا رمضان

اے اللہ! ہمارے لئے ربِّ جب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا

فرمائیے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں، گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لئے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع رب جب میں یہ دعا نہ کی ہو تو وہ اب یہ دعا کر لے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو عام لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔

شب معراج کی فضیلت ثابت نہیں

مثلاً، ۲۔ رب جب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے، کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے، بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ "شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے"، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص خاص طریقے مشہور کر دیئے کہ اس رات میں اتنی رکھتیں پڑھی جائیں، اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص سورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئیں۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔

شبِ مراجِ کی تعمیین میں اختلاف

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ۲۔ رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربيع الاول میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسی رات صحیح معنی میں مراج کی رات تھی۔ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے۔

واقعِ مراج کی تاریخ کیوں محفوظ نہیں؟

اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شبِ مراج بھی شبِ قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شبِ قدر کے بارے میں ہیں تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کیا گیا تو اب یقینی طور سے ۲۔ رجب کو شبِ مراج قرار دینا درست نہیں۔

وہ رات عظیم الشان تھی

اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کریا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۲

رجب ہی کو مراج کے لئے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشنا، اور امت کے لئے نمازوں کا تحفہ بھیجا، بے شک وہ رات بڑی عظیم الشان تھی - کسی مسلمان کو اس کی عظمت میں کیا شہر ہو سکتا ہے؟

آپ کی زندگی میں ۱۸ مرتبہ شب مراج کی تاریخ آئی۔
لیکن

یہ واقعہ مراج سن ۵ نبوی میں پیش آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے پانچویں سال یہ شب مراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد ۱۸ سال تک آپ دنیا میں تشریف فرمائے ہے، لیکن ان اٹھارہ سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جا گنازیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، نہ تو آپ کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جا گئے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود خصور صلی اللہ علیہ وسلم جا گے، اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تاکید کی، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔

اس کے برابر کوئی احمق نہیں

پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد
سو سال تک صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے، اس پوری صدی میں کوئی ایک
واقد ایسا ثابت نہیں ہے، جس میں صحابہ کرام نے ۲۰۔ رب جب کو خاص
اهتمام کر کے منایا ہو، جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور
جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو
سنن قرار دینا، یا اس کے ساتھ سنن جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے، اگر کوئی
شخص یہ کہے کہ میں (معاذ اللہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں
کہ کونسی رات زیادہ فضیلت وائی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ کرام
سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو میں
اس کو کروں گا، اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔

بنیے سے سیانا سو باولा

ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا
کرتے تھے کہ اردو میں ایک مثل اور کہاوت ہے جو ہندوستان کے اندر مشہور
تھی اب تو لوگ اس کے معنی بھی نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ:

”بنیے سے سیانا سو باولا“

یعنی جو شخص یہ کہے کہ میں تجارت میں بنیے سے زیادہ ہوشیار ہوں،

میں اس سے زیادہ تجارت کے گر جانتا ہوں تو حقیقت میں وہ شخص باوڑا یعنی پاگل ہے، اس لئے کہ بنیے سے زیادہ تجارت کے گر جانے والا، اور کوئی نہیں ہے، یہ تو عام ضرب المثل کی بات تھی۔

صحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانے والا کون؟

لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام تابعین اور تابعین دین کو سب سے زیادہ جانے والے، دین ~~کھنوب~~ سمجھنے والے، دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں، یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں، یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی فہم نہیں رکھتا۔

اس رات میں عبادت کا اہتمام بدعت ہے

لہذا اس رات میں عبادت کے لئے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے، یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے وہ ہتری ہتر ہے، آج کی رات بھی جاگ لیں کل کی رات جاگ لیں، اسی طرح پھر سائیسیوں رات کو جاگ لیں، دونوں میں کوئی فرق اور کوئی نیایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔

۲۔ رجب کا روزہ ثابت نہیں۔

اسی طرح ستائیں (۲۰) رجب کا روزہ ہے، بعض لوگ ستائیں رجب کے روزے کو فضیلت والا روزہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ عاشورہ اور عرفہ کا روزہ فضیلت والا ہے، اسی طرح ستائیں رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ خیال کیا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ ایک یادو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہیں، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت ثابت نہیں۔

حضرت فاروق اعظمؑ نے بدعت کا سد باب کیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ (۲۱) رجب کو روزہ رکھنے لگے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ (۲۲) رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر یا ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے، اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ، اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا، تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے۔ بلکہ جیسے اور دونوں میں نفلی روزے رکھے جاسکتے ہیں، اسی طرح اس دن کا نفلی روزہ رکھا جاسکتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ اہتمام اس لئے فرمایا تاکہ بدعت کا سد باب ہو، اور دین کے اندر اپنی

طرف سے زیادتی نہ ہو۔

رات میں جاگ کر کونسی براہی کر لی؟

اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کونسا گناہ کر لیا؟ کیا ہم نے چوری کر لی؟ یا شراب پی لی؟ یا ڈاکہ ڈالا؟ ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا؟

دین "اتباع" کا نام ہے

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بتلا دیا کہ خرابی یہ ہوئی کہ اس دن کے اندر روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اور خود ساختہ اہتمام التزام ہی اصل خرابی ہے۔ میں یہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ "اتباع" ہے کہ ہمارا حکم مانو، نہ روزہ رکھنے میں کچھ رکھا ہے، نہ افطار کرنے میں کچھ رکھا، نہ نماز پڑھنے میں کچھ رکھا، جب ہم کہیں کہ نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اور جب ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو نماز نہ پڑھنا عبادت ہے، جب ہم کہیں کہ روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت ہے اور جب ہم کہیں کہ روزہ نہ رکھو تو روزہ نہ رکھنا عبادت ہے، اگر اس وقت روزہ رکھو گے تو یہ دین کے خلاف ہو گا۔ دین کا سارا کھیل اتباع میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حقیقت

دل میں اتار دے تو ساری بد عتوں کی خود ساختہ التزامات کی جڑ کٹ جائے۔

وہ دین میں زیادتی کر رہا ہے
اب اگر کوئی شخص اس روزے کا زیادہ اہتمام کرے تو وہ شخص دین
میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے، اور دین کو اپنی طرف سے گھر رہا ہے۔
لہذا اس نقطے نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں! البتہ اگر کوئی شخص عام
دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت
نہیں، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ
مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا، یا اس رات
میں جا گناہ درست نہیں، بلکہ بدعت ہے۔

کونڈوں کی حقیقت

شب معراج کی تو پھر بھی کچھ اصل ہے کہ اس رات میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر تشریف لے گئے، لیکن اس سے بھی زیادہ
آج کل معاشرے میں فرض و واجب کے درجے میں جو چیز پھیل گئی ہے، وہ
کونڈے ہیں، اگر آج کسی نے کونڈے نہیں کئے تو وہ مسلمان ہی نہیں، نماز
پڑھنے یا نہ پڑھنے، روزے رکھنے یا نہ رکھنے، گناہوں سے بچنے، یا نہ بچنے، لیکن
کونڈے ضرور کرے، اور اگر کوئی شخص نہ کرے یا کرنے والوں کو منع
کرے تو اس پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے، خدا جانے یہ کونڈے کہاں سے

نکل آئے؟ اور قرآن و حدیث میں، صحابہ کرام سے، تابعین سے یا اسے تابعین
اور بزرگان دین سے، کہیں سے اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور اس کو اتنا
ضروری سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں دین کا کوئی دوسرا کام ہو یا نہ ہو، لیکن
کونڈے ضرور ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ذرا مزہ اور لذت آتی ہے،
اور ہماری قوم لذت اور مزہ کی خوگر ہے، کوئی میلہ ٹھیک ہو ناچاہئے، اور کوئی
خط نفس کا سامان ہو ناچاہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جناب! پوریاں پک رہی ہیں
حلوہ پک رہا ہے، اور ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور ادھر سے ادھر آ رہی ہیں، اور
ایک میلہ ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ بڑا مزہ کا کام ہے، اس واسطے شیطان نے
اس میں مشغول کر دیا کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، وہ کوئی ضروری نہیں، مگر یہ کام
ضرور ہو ناچاہئے۔

یہ امت خرافات میں کھو گئی

بھائی! ان چیزوں نے ہماری امت کو خرافات میں بستکا کر دیا ہے
حقیقت روایات میں کھو گئی
یہ امت خرافات میں کھو گئی
کہ اس قسم کی چیزوں کو لازمی سمجھ لیا گیا اور حقیقی چیزوں پس پشت
ڈال دی گئیں، اس کے بارے میں رفتہ رفتہ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی
 ضرورت ہے، اس لئے کہ بہت سے لوگ صرف ناواقفیت کی وجہ سے کرتے
 ہیں، ان کے دلوں میں کوئی عناد نہیں ہوتا، لیکن دین سے واقف نہیں، ان

پیچاروں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح عبید الاصلحی کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اور گوشت ادھر سے ادھر جاتا ہے یہ بھی قربانی کی طرح کوئی ضروری چیز ہو گی، اور قرآن و حدیث میں اس کا بھی کوئی ثبوت ہو گا، اس لئے ایسے لوگوں کو محبت، پیار اور شفقت سے سمجھایا جائے، اور ایسی تقریبات میں خود شریک ہونے سے پرہیز کیا جائے۔

خلاصہ

بہر حال! خلاصہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس لئے رمضان کے لئے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے پہلے سے دعا بھی فرمائے ہیں، اور لوگوں کو توجہ دلائے ہیں کہ اب اس مبارک مہینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرو، اور اپنا نظام الاوقات ایسا بنانے کی فکر کرو کہ جب یہ مبارک مہینہ آئے تو اس کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی فہم عطا فرمائے، اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين